

COVID-19 کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کو بے مثال چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلسل تبدیلیوں، الجھنوں اور خوف کی حالت نے ہمارے خاندانوں پر منفی اثر ڈالا ہے، جس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں اور Success By 6 Coalition کی حیثیت سے، ہمیں کم عمر آسٹن کے باشندوں کی حمایت کے لئے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ والدین اور دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے لئے آسان پیغامات کے ذریعہ ہم لفظی طور پر متحد اور یک روح بن سکتے ہیں اور برادری کا احساس جگا سکتے ہیں۔

Success By 6 Coalition کے ایک ممبر کی حیثیت سے، قیادت کی ٹیم اور مواصلات ورک گروپ والے آپ سے ان پانچ سادہ و آسان پیغامات کو خاندانوں تک پہنچانے کا عزم کرنے کو کہتے ہیں۔ [The Spanish version is on page 2](#).

جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو ماسک ضرور پہنیں۔ اگر کسی عوامی عمارت جیسے کریانہ اسٹور میں آپ کا داخل ہونا لازمی ہو تو، اپنے ساتھ لوگوں کی تعداد کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، دم گھٹنے کے خطرے کی وجہ سے دو سال سے کم عمر کے بچوں کو ماسک نہیں پہننا چاہئے۔



**Bright by Text** بروقت وسائل، سادہ حوصلہ افزائی اور دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے لئے معاونت حاصل کرنے کے لئے Bright By Text کے لئے سائن اپ کریں۔ [www.bit.ly/SMARTATX](http://www.bit.ly/SMARTATX)

چھوٹے بچوں کی فلاح و بہبود کے لئے، جہاں تک ہو سکے گھر کے معمولات کو جاری رکھیں، جس میں روزانہ بات کرنا، کھیلنا، پڑھنا، اور گانا شامل ہے۔



اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ ہماری کمیونٹی کے پاس اگلے 10 سالوں کی ضرورت کے حساب سے وسائل اور نمائندگی موجود ہو، یہاں پر مردم شماری کو پُر کریں [www.MyCensus2020.gov](http://www.MyCensus2020.gov)

1-1-2 پر فون کریں یا ملاحظہ کریں [www.ConnectATX.org](http://www.ConnectATX.org) بنیادی ضروریات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے، بشمول کھانا، بچوں کی دیکھ بھال، دماغی صحت، جسمانی حفاظت اور بہت کچھ۔



Success By 6 نے ای میل، ٹیکسٹ، سوشل میڈیا، وغیرہ کے ذریعے شیئر کرنے کے لئے بہت سارے کاپی اور پیسٹ اسٹائل میں پیغامات تیار کئے ہیں۔ یہاں پر ان سب تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان پیغامات کو دہرانے سے مت گھبرائیں - دہرانا اور مستقل مزاجی ہمارے دوست ہیں!

ساتھ مل کر، ہم ایک ایسے وقت میں الجھن اور غلط معلومات سے نمٹنے میں مدد کر سکتے ہیں جب کہ وضاحت ضروری ہو چکی ہے۔ ہماری کمیونٹی کے نوجوان ممبران کے لئے آپ کی استقامت اور لگن کے لئے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔